

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

تسبیح کراپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر متناسب قائم کیا اور جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔

الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۱)

پاک کی بول (تسبیح کر) اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (۲)

جس نے بنایا (پیدا کیا) پھر ٹھیک (تاسب قائم) کیا،

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (۳)

اور جس نے ٹھہرایا (تقدیر بنائی)، پھر راہ دی (دکھائی)۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (۴)

اور جس نے نکالا چارا۔

فَجَعَلَهُ عِثَاءً أَحْوَى (۵)

پھر کر ڈالا اسکو کوڑا کالا۔

سَنُقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى (۶)

ہم پڑھائیں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا،

إِنَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

مگر جو چاہے اللہ۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (۷)

وہ جانتا ہے پکارا (ظاہر) اور چھپا۔

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (۸)

اور تسبیح (آسانی سے) پہنچادیں گے ہم تجھ کو آسانی تک۔

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (۹)

سو تو سمجھا۔ اگر کام کرے سمجھانا،

سَيَذَرُ مَنْ يَخْشَى (۱۰)

سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا۔

وَيَتَجَبَّبُهَا الْأَشْقَى (۱۱)

اور سرک رہے (گریز کرے) گا اس سے بڑا بد بخت۔

الَّذِي يَصْنِي النَّارَ الْكُبْرَى (۱۲)

وہ جو پنچے گا بڑی آگ میں،

ثُمَّ لَمْ يَمُوتْ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (۱۳)

پھر نہ مرے گا اس میں نہ جینے گا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (۱۴)

پیشک بھلا ہوا اسکا جو سنورا،

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (۱۵)

اور پڑھا نام اپنے رب کا، پھر نماز کی (پڑھی)۔

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۱۶)

کوئی نہیں (لیکن) تم آگے رکھتے (ترجیح دیتے) ہو دنیا کا جینا،

وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (۱۷)

اور پچھلا گھر (آخری زندگی) بہتر ہے اور رہنے والا۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (۱۸)

یہ کچھ لکھا ہے پہلے ورقوں (صحیفوں) میں،

صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (۱۹)

ورق (صحیفے) ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔

